

سپر مارکیٹ میں نوکری کرنا کیسا ہے جہاں شراب بیچی جاتی ہے  
الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستقراء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں  
کہ سپر مارکیٹ میں نوکری کرنا کیسا ہے جہاں ہمیں بعض اوقات شراب کو بھی  
بینٹل کرنا پڑتا ہے اور جب کسٹمر مانگیں تو ہمیں انہیں دینا ہوتا ہے اور انہیں  
الماریوں میں رکھنا اور چھونا پڑتا ہے ایسی نوکری کرنا کیسا ہے ؟  
سائل: قاسم فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم  
الجواب بعون الملك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

ایسی نوکری کرنا جس میں شراب کو چھونا، اٹھانا، رکھوانا، بیچنا، بکوانا  
پڑتا ہے ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہلسنت  
امام احمد رضا خان علیہ رحمة الرحمن فرماتے ہیں شراب کابنانا، بنوانا، چھونا،  
اٹھانا، رکھانا، بیچنا، بکوانا، مول لینا، دلوانا سب حرام حرام ہے۔ اور  
جس نوکری میں یہ کام یا شراب کی نگاہداشت اُس کے دامون کا حساب کتاب کرنا ہو  
سب شرعاً ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تَعَوَّنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ** اور گناہ  
اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو

(المائدہ: 2)

(فتاویٰ رضویہ ج 23 ص 569)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں : لعن اللہ الخمر وشاربها  
وساقیها و بائعها ومتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه  
وأكل ثمنها۔

شراب، اسے پینے والا، پلانے والا، فروخت کرنے والا، خریدنے والا، کشید کرنے  
والا، کشید کروانے والا، اسے اٹھانے والا، جس تک اٹھاکر لے گیا، اور اس کی  
قیمت استعمال کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے ان سب پر لعنت فرمائی۔

(سنن ابی داؤد کتاب الاشربہ باب العصیر للخمر آفتاب عالم پریس لاہور ۱۶۱/ ۲)

(المستدرک للحاکم کتاب الاشربہ دارالفکر بیروت ۱۴۵/ ۴)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

## WORKING IN A SUPERMARKET WHERE ALCOHOL IS SOLD

**QUESTION:** What do the scholars and muftis of the mighty Shari'ah say regarding the following matter, how is it to work in supermarkets, where we sometimes have to handle alcohol and if a customer requests it, we must give it to them. Also, we have to stock it on the shelves and touch them, how is it to do such a job?

Questioner: Qasim from England

**ANSWER:**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هَدِيَةُ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

It is impermissible to work such a job which involves alcohol being touched, lifted, placed, encouraged to be place, sold or encouraged to be sold. 'Alā Hazrat Imām Ahmad Razā Khān (may Allāh envelope him in mercy) states,

"Producing alcohol, having it produced, touching it, lifting it, placing it, having it placed, selling it, having it sold, taking benefit from it and giving benefit through it is harām harām harām! The job which involves these actions, watching over alcohol or its costing are all impermissible". Allāh (Most High) states,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغُنُونِ

"And do not assist one another in sin and enmity". [Sūrah al-Mā'idah, Verse 2]

[Fatāwā Razawiyyah, Volume 23, pg 569]

The Messenger of Allāh (upon him be peace and blessings) said,

لَعْنَ اللَّهِ الْخَمْرُ وَشَاربُهَا وَسَاقِيَهَا وَبَانِعَهَا وَمُبْتَاعِهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَمَهْمُولَهَا إِلَيْهِ وَأَكْلَ ثَمَنَهَا

"Allāh has cursed alcohol, the one who drinks it, the one who serves it to others, its seller, its buyer, its maker, the one who it is made for, its carrier, the one who it is carried to and the one who consumes the money made from it."

[Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Ashribah, Bāb al-'Asīr li al-Khamr, Vokume 2, pg 161]

[al-Mustadrak li al-Hākim al-Ashribah, Volume 4, pg 145]

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ  
كَتَبَهُ أَبُو الْحَسْنِ مُحَمَّدٌ قَاسِمٌ ضَيَّاءُ قَادِرِي

**Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādrī**  
**Translated by Zameer Ahmed**